



سوال

(282) ہمارے گھر میں ایک غیر مسلم ملازمہ ہے تو کیا۔۔۔۔۔؟

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

ہمارے گھر میں ایک غیر مسلم ملازمہ ہے تو کیا ہمارے گھر کی خواتین کے لئے اس کے ساتھ مل جل کر بیٹھنا، سونا اور کھانا جائز ہے؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

الحمد للہ، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

اس میں کوئی حرج نہیں اور علماء کے صحیح قول کے مطابق گھر کی خواتین کے لئے اس سے پردہ کرنا واجب نہیں ہے ہاں البتہ یہ ضرور واجب ہے کہ اس سے ایک مسلمان عورت کا سامعہ نہ کریں بلکہ اس سے اللہ کی خاطر بغض رکھیں کیونکہ

ارشاد باری تعالیٰ ہے :

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لَوْ لَقَوْا مِعْمَ إِبْرَاهِيمَ إِذَا بَرَّآءُ مِنْكُمْ وَمِنَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ (الممتحنہ ۶۰/۴)

” (اے اہل ایمان) تمہارے لئے ابراہیم (علیہ السلام) اور ان کے رفقاء (ساتھیوں) میں بہترین نمونہ ہے جب انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ ہم تم سے اور ان (بتوں) سے جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، بے تعلق ہیں (اور) تمہارے (معبودوں کے کبھی قائل نہیں ہو سکتے) اور جب تک تم اللہ وحدہ پر ایمان نہ لاؤ ہمارے اور تمہارے درمیان کلمہ کھلا عداوت اور دشمنی رہے گی۔“

اور اہل خانہ پر واجب ہے کہ یہ ملازمہ اگر مسلمان نہ ہو تو اسے اس کے ملک میں واپس بھیج دیں کیونکہ یہ جائز نہیں کہ جزیرۃ العرب میں کوئی یہودی یا عیسائی یا کوئی اور مشرک، خواہ وہ مرد ہو یا عورت باقی رہنے دیا جائے کیونکہ نبی کریم ﷺ نے یہ وصیت فرمائی تھی کہ انہیں اس جزیرہ سے نکال دیا جائے اور پھر ان امور کو سرانجام دینے کے لئے مسلمان مرد اور عورتیں بہت ہیں۔ مسلمانوں میں ان کا وجود اس اعتبار سے بھی خطرہ سے خالی نہیں ہے کہ اس سے مسلمانوں کا عقیدہ و اخلاق بھی خراب ہوتا ہے لہذا جزیرۃ العرب کے تمام مسلمانوں پر یہ واجب ہے کہ وہ خدمت یا دیگر کاموں کے لئے غیر مسلم ملازموں کو نہ رکھیں تاکہ نبی کریم ﷺ کی وصیت پر عمل کر سکیں اور ان بے شمار خطرات و نقصانات سے بچ سکیں جو غیر مسلموں کے ساتھ اختلاط سے مسلمان مردوں اور عورتوں کے عقیدہ و اخلاق کو لاحق ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مسلمانوں کو ان سے بے نیاز ہو جانے کی توفیق بخشے اور ان کے شر سے محفوظ رکھے، انہ جواد کریم۔



مجلس البحث والدراسات
محدث فتویٰ

مقالات و فتاویٰ ابن باز

377 صفحہ

محدث فتویٰ